



Bank Alfalah

Document Control

S.No.	Renewal/Amendments	Approving Authority	Approval Date
1.	Alfalah SnaPack Account – Terms & Condition	PIC/359/24	Aug 29, 2024

شرائط و ضوابط برائے بینک الفلاح سنے پیک گڈز اکاؤنٹ



Bank Alfalah

Account Title
اکاؤنٹ کا نام[illegible]Account No.
اکاؤنٹ نمبر[illegible]

Bank Alfalah SnaPack Kids Account Terms and Conditions

بینک الفلاح سنے پیک کڈز اکاؤنٹ شرائط و ضوابط

- Bank Alfalah SnaPack Kids Account ("Account") is an account which can be opened on behalf of a minor by the natural guardian/parent/ legal guardian (the "Guardian/Parent") of the minor. The Guardian/Parent hereby authorise the Bank to open such account at its discretion and as per applicable policy/procedure of the Bank.
بینک الفلاح سنے پیک کڈز اکاؤنٹ ("اکاؤنٹ") ایک ایسا طریقہ کار اکاؤنٹ ہے جو نا بالغ کے نام حقیقی والدین/ سرپرست / قانونی سرپرست (سرپرست/والدین) کے ذریعہ کھولا جاسکتا ہے۔ سرپرست/والدین بینک کے مروجہ طریقے کار کے تحت بینک کو یہ اختیار دینگے کہ وہ اپنی صوابدید پر یہ اکاؤنٹ کھول دے۔
- A person is considered a minor, in case of natural guardian/parent, up to 18 years of age and in case of court appointed guardian up to the age of 21.
طبعی سرپرست / والدین کی صورت میں نابالغ 18 سال کی عمر تک تصور ہوگا اور عدالت سے تعینات کردہ سرپرست کی صورت میں 21 سال کی عمر تک۔
- The title of the account will contain the name of the minor along with the name of the Guardian/Parent.
اکاؤنٹ کا نام نا بالغ کے نام کے ساتھ سرپرست / والدین کے نام پر مشتمل ہوگا۔
- The Guardian/Parent shall be fully responsible and liable with respect to the operation of the account.
نابالغ کے سرپرست / والدین تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نابالغ کا اکاؤنٹ ہے اور سرپرست / والدین اکاؤنٹ چلانے کے حوالے سے مکمل ذمہ دار اور جوابدہ ہوں گے۔
- The Guardian/Parent shall be required to provide proper identification in form of CNIC of the Guardian/Parent and B-Form/Birth Certificate of the minor.
سرپرست / والدین کو اپنی شناختی کارڈ اور نابالغ کے ب فارم / برتھ سرٹیفیکٹ کی صورت میں مکمل شناخت فراہم کرنا ہوگی۔
- Profit/Return on funds placed in the account shall be paid by the Bank from time to time, as determined by the Bank. The Bank's determination of Profit/Return shall be final and binding on the customer for all purposes. The Profit/Return will be calculated on the monthly average balance and disbursed on a monthly basis. This is subject to any changes as may be required by the State Bank of Pakistan from time to time.
اکاؤنٹ میں رکھے گئے فنڈز پر منافع کی ادائیگی وقتاً فوقتاً ادا کی جائے گی جیسا کہ بینک کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ بینک کا منافع کا تعین حتمی ہوگا اور صارف اس کا پابند ہوگا۔ منافع کا حساب ماہانہ اوسط پر کیا جائے گا اور اس کی ادائیگی ماہانہ بنیادوں پر ہی کی جائے گی۔ تاہم یہ کہ کسی بھی ایسی تبدیلی سے مشروط ہے جو اسٹیٹ بینک کو وقتاً فوقتاً درکار ہوگی۔
- The account shall be a savings account.
یہ اکاؤنٹ ایک سیوننگز اکاؤنٹ ہوگا۔
- The funds may be withdrawn from the account through the use of a customised SnaPack Debit Card that will be issued by the Bank in the joint names of the minor and the Guardian/Parent. All rules/terms and conditions of the Bank pertaining to ATM/Debit Cards shall apply in this regard and the Guardian/Parent shall be bound by the same. The Guardian/Parent may provide and allow the minor possession and use of the Bank Alfalah SnaPack Debit Card. However, all responsibility and liability with respect of the safe custody, use and otherwise of all matters incidental thereto shall vest solely with the Guardian/Parent. ATM Pin issuance shall be provided to the Guardian/Parent and other verifications will be taken from the Guardian/Parent.
اکاؤنٹ سے فنڈز بینک الفلاح سنیپیک ڈیبٹ کارڈ کے استعمال سے نکالے جاسکتے ہیں جو بینک کی طرف سے نا بالغ اور سرپرست / والدین کے مشترکہ ناموں پر جاری کیے جائیں گے۔
ای ٹی ایم/ڈیبٹ کارڈ سے متعلق بینک کے تمام قواعد و ضوابط اس سلسلے میں لاگو ہوں گے اور سرپرست / والدین اس کے پابند ہوں گے۔ سرپرست / والدین بچے کو بینک الفلاح سنیپیک ڈیبٹ کارڈ کے قبضے اور استعمال کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تاہم، محفوظ تحویل، استعمال اور اس سے متعلقہ معاملات کے حوالے سے تمام ذمہ داری مکمل طور پر سرپرست / والدین کی ہوگی۔ ای ٹی ایم پن کا اجرا سرپرست / والدین کو فراہم کیا جائے گا اور دیگر تصدیق سرپرست / والدین سے لی جائے گی۔
- Customised free Cheque Book will be given to the Guardian/Parent for access to funds in the account.
سرپرست / والدین کو اکاؤنٹ تک رسائی کیلئے مخصوص چیک بک مفت فراہم کی جائے گی۔
- The account will have a monthly capping of 3 free withdrawals subsequently and further withdrawals shall be subject to charge as per Schedule of Charges of the Bank.
اکاؤنٹ میں ماہانہ 3 دفعہ مفت رقم نکلوانی جاسکتی ہے اور مزید رقم نکلوانا بینک کے شیڈول آف چارجز کے مطابق مشروط ہے۔
- Initial deposit requirement is Rs. 100. However, there is no minimum balance maintenance requirement on the Account.
ابتدائی درکار ڈپازٹ 100 روپے ہے۔ اکاؤنٹ کیلئے کم سے کم درکار بیلنس میینٹیننس کی کوئی شرط نہیں ہے۔
- The account will automatically be flagged when the minor turns 18 (in case of natural guardian/parent) and 21 (in case of legal/court appointed guardian) and a debit block will be placed in the account.
جب نابالغ 18 سال (طبعی سرپرست / والدین کی صورت میں) اور 21 سال (قانونی / عدالتی مقرر کردہ سرپرست کی صورت میں) کا ہوگا تو اکاؤنٹ کی خود بخود نشاندہی ہو جائے گی اور ڈیبٹ بلاک اکاؤنٹ میں لگادیا جائے گا۔
- Letter regarding minor attaining age of majority will be sent to the Customer (Guardian/Parent) one month before the date minor attains age of majority, which is 18 years, where, natural guardian/parent of minor has opened a minor account; and 21 years, where, the court has appointed a guardian.
نابالغ کے بلوغت کی عمر سے متعلق خط صارف / سرپرست / والدین کو نابالغ کے بالغ ہونے کی تاریخ سے ایک ماہ پہلے بھیجا جائے گا، جو کہ 18 سال ہے، جہاں، نابالغ کے قدرتی سرپرست / والدین نے نابالغ اکاؤنٹ کھولا ہے، اور 21 سال، جہاں، عدالت نے ایک سرپرست مقرر کیا ہے۔
- After minor attains majority, which is 18 years in case of natural guardian and 21 years in case of legal/court appointed guardian, the Guardian/Parent shall have to close the account and upon the instructions of the minor who would have attained majority, the Bank may (at its sole discretion) open a new account in name of the minor who would have attained majority, after fulfilling all the necessary documentation and requirement for opening a new account, as per the policy/procedure of the Bank, as applicable from time to time.
نابالغ کے بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر قدرتی سرپرست کی صورت میں جو کہ 18 سال اور عدالت کی جانب سے مقرر کردہ سرپرست کی صورت میں 21 سال ہے، سرپرست / والدین اکاؤنٹ بند کر دیں گے اور نابالغ ہونے والے فرد کی ہدایات پر بینک (اپنی خود کی صوابدید پر) نابالغ جو بالغ ہو گیا ہوگا اس کے نام پر نیا اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط اور ضروری دستاویزات کی تکمیل پر بینک کی وقتاً فوقتاً لاگو ہونے والی پالیسی / طریقہ کار کے مطابق نیا اکاؤنٹ کھولے گا۔

15. The process for closing of the account shall be as per the applicable policy/procedure of the Bank
اکاؤنٹ بند کرنے کا عمل بینک کے طریقہ کار اور مروجہ پالیسی کے مطابق ہوگا۔
16. The account will not be used for business/ other purposes.
اس اکاؤنٹ کو کاروباری / دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔
17. SMS Alerts & E-statements will be sent free of cost to the natural guardian/parent/legal guardian.
قدرتی سرپرست / والدین / قانونی سرپرست کو ایس ایم ایس اور ایم اسٹیٹمنٹ مفت بھیجی جائیں گی۔
18. The Bank shall have right to debit the account for service charges as per the Schedule of Charges (as amended from time to time) and all amounts due to the Bank from the customer as per services availed by the customer whatsoever, for any services in relation to the account. These service charges shall be as specified in the schedule of charges of the bank.
بینک کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اکاؤنٹ کو سروس چارجز کے لیے ڈیبٹ کرے جیسا کہ وقتاً فوقتاً نظر ثانی شدہ شیڈول آف چارجز میں بتایا گیا ہے اور وہ تمام رقم جو بینک کو کسی بھی سروس کے حوالے سے کسٹمر سے وصول کرنی ہے۔ یہ سروس چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز میں بیان کیے گئے ہوں گے۔
19. The Bank has the right to amend the Schedule of Charges from time to time and communicate the same through various modes as determined by the Bank in accordance with applicable law and regulations.
بینک اس بات کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ بینک کے شیڈول آف چارجز میں وقتاً فوقتاً تبدیلی کر سکے اور مختلف طریقوں سے اس کی تشہیر کر کے صارفین کو مروجہ قواعد و ضوابط کے تحت اس تبدیلی سے آگاہ کرے۔
20. The Bank has the right to close the account without assigning any reasons whatsoever, and with or without notice to the customer, subject to applicable laws of Pakistan.
بینک اس بات کا حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ کوئی وجہ بتائے بغیر نوٹس دے کر یا بغیر نوٹس دیے اکاؤنٹ کو پاکستان کے مروجہ قوانین کے تحت بند کر دے۔
21. The Bank reserves the right to close the account after giving 14 days' notice to the customer if NIL balance remains in the account for a continuous period of 6 months or more
اگر کسٹمر کے اکاؤنٹ میں صفر بیلنس مسلسل چھ مہینے یا اس سے زیادہ تک رہے تو بینک کے پاس حق محفوظ ہے کہ کسٹمر کو 14 دن کے نوٹس کے بعد اکاؤنٹ بند کر دے۔
22. These terms and conditions are in addition to and form an integral part of the regular terms and conditions of account opening and its maintenance. The account may be opened instantly after due diligence checks, however activation of the account may be restricted for debit transactions until complete documentation is checked and reviewed by the Centralized Operation Department of the Bank. The Bank shall intimate the customer regarding activation of account.
یہ شرائط و ضوابط اکاؤنٹ کھولنے اور اسے میٹین کرنے کی ریگولر شرائط و ضوابط کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اکاؤنٹ مطلوبہ جانچ اور ضابطوں کی تکمیل کے بعد فوراً کھولے جاسکتے ہیں لیکن ان میں ڈیبٹ ٹرانزیکشنز بینک کے سینٹرلائزڈ آپریشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے دستاویزات کی جانچ اور جائزے تک نہیں ہوسکے گی۔ بینک، اکاؤنٹ فعال ہونے کی اطلاع کسٹمر کو دے گا۔
23. These Terms and Conditions may be revised or modified by the Bank from time to time and shall be subject to the laws of Islamic Republic of Pakistan, including all notifications, directives, circulars and regulations of the State Bank of Pakistan. The revised or modified terms will be effective upon expiry of 30 days from the advance notice given to the Customer. Such will be served as per prevailing Rules and Regulations of Pakistan.
بینک کی جانب سے وقتاً فوقتاً یہ شرائط و ضوابط میں تبدیلی ہوسکتی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قوانین سے مشروط ہے۔ بشمول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام نوٹیفیکیشن ڈائریکٹوز، سرکلر اور ریگولیشنز۔ کسٹمر کو پیشگی نوٹس کے 30 دن کے بعد تبدیلی شدہ شرائط موثر ہوں گی۔ یہ (نوٹس) پاکستان کے مروجہ قوانین اور ضوابط کے مطابق بھیجا جائے گا۔

The Guardian/Parent hereby agree that by signing below, the Guardian/Parent has read, understood and accepted the Terms and Conditions stipulated above and that the same shall be binding on the Guardian/Parent without any qualifications/restrictions.


سرپرست / والدین بذریعہ ہذا نیچے دستخط کر کے متفق ہیں کہ سرپرست / والدین اوپر درج شرائط و ضوابط کو پڑھ، سمجھ اور تسلیم کر چکے ہیں اور کسی پابندی کے بغیر سرپرست / والدین اس کے پابند ہوں گے۔

Customer Signature

کسٹمر کے دستخط

(Copy Received and Accepted)

(نقل وصول اور قبول کی گئی)



Bank Alfalah
111 225 111
bankalfalah.com